

11 جنوری 2018

فائر چیف نے رہائشیوں پر زور دیا کہ وہ اسموک الارم لگوائیں اور آگ کی صورت میں گھر سے نکلنے کے منصوبوں کی مشق کریں۔

برامپٹن، آن – اوشاوا، آن، میں بروز پیر، مورخہ 8 جنوری 2018 کو ہونے والی ایک خوفناک آتش زدگی کے بعد برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز عوام کو یاددہانی کروا رہی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے گھروں کی ہر منزل پر اور سونے کی تمام جگہوں کے باہر چالو حالت میں اسموک الارم لگے ہوئے ہونے چاہیں اور یہ کہ گھر میں رہائش پذیر ہر شخص کو آگ لگنے کی صورت میں گھر سے بحفاظت باہر نکلنے کی مشق کریں۔

ذیل میں برامپٹن فائر کی جانب سے گھر میں آگ سے بچاؤ اور حفاظت کے مشورے ہیں:

دھوئیں اور کاربن مونو آکسائیڈ الارم کے بارے میں سادہ و مفید تجاویز:

- اپنے گھر کی ہر منزل اور سونے کی ہر جگہ کے باہر، کام کرنے والے دھوئیں کے الارم لگوائیں۔ اضافی تحفظ کے لیے، ہر بیڈ روم کے اندر اسموک الارم بنانے والی کمپنی کی ہدایات کے مطابق اسموک الارم نصب کروائیں۔ بڑے گھروں میں اضافی اسموک الارم لگوانے چاہیں۔
- اگر آپ کے گھر میں ایندھن استعمال کرنے والے آلات، انگیٹھی یا منسلکہ گیراج موجود ہے، تو سونے والی تمام جگہوں کے باہر کاربن مونو آکسائیڈ الارم لگوائیں۔ اضافی تحفظ کے لیے، ہر بیڈ روم کے اندر کاربن مونو آکسائیڈ الارم بنانے والی کمپنی کی ہدایات کے مطابق کاربن مونو آکسائیڈ کا الارم نصب کروائیں۔
- ہر مہینے ٹیسٹ بٹن کو دبا کر اسموک اور کاربن مونو آکسائیڈ الارموں کو ٹیسٹ کریں۔ بیٹریاں ہر سال تبدیل کریں۔
- اسموک اور کاربن مونو آکسائیڈ الارم وقت گزرنے کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں۔ کمپنی کی ہدایات کے مطابق پرانے الارموں کو اتار کر نئے لگوائیں۔

گھر میں آگ لگنے کی صورت میں باہر نکلنے کے منصوبے میں درج ذیل سادہ مراحل شامل ہیں:

- اگر ممکن ہو، تو ہر شخص کو ہر کمرے سے باہر نکلنے کے دو راستے معلوم ہونے چاہیں۔
- باہر نکلنے کے تمام راستوں میں کوئی بھی رکاوٹ موجود نہ ہو اور یہ راستے آسان ہونے چاہیں۔
- اگر آپ کے گھر میں کوئی معذور شخص موجود ہو، تو گھر میں آگ کی صورت میں معذور شخص کی خصوصی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر منصوبہ تیار رکھیں۔ اس بات کا تعین کر لیں کہ چھوٹے بچوں، عمر رسیدہ اشخاص اور گھر کے ایسے اشخاص جن کو باہر نکلنے میں مدد کی ضرورت ہے، کی مدد کون کرے گا۔
- گھر سے باہر جمع ہونے کی کوئی جگہ مخصوص کر لیں مثلاً کوئی درخت یا کھمبا وغیرہ، جہاں پر سب لوگوں کو شمار کیا جا سکے۔
- گھر سے باہر نکل کر موبائل فون یا کسی پڑوسی کے فون کے ذریعے فائر ڈیپارٹمنٹ کو فون کریں۔
- آگ لگ جانے کی صورت میں اپنے گھر سے باہر نکلنے کے منصوبے کی مشق کریں۔
- جب باہر نکل جائیں، تو باہر ہی رہیں۔ آگ کی موجودگی میں کبھی بھی بلڈنگ میں دوبارہ داخل نہ ہوں۔

اپارٹمنٹس والی عمارتوں میں رہائش پذیر ایسے لوگ جنہیں آگ کی صورت میں باہر نکلنے میں مدد درکار ہوتی ہے:

- اگر آپ کو معاونت درکار ہو، تو سپرنٹینڈنٹ یا لینڈ لارڈ کو بتائیں۔
- اپنا نام فائر اسسٹینس پلان کی ان لوگوں کی فہرست میں شامل کروائیں، جنہیں معاونت درکار ہوتی ہے، تاکہ فائر ڈیپارٹمنٹ کو معلوم ہو کہ آپ کس اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر ہیں۔
- ہنگامی صورت حال سے نمٹنے کے لیے اپنی عمارت کے فائر سیفٹی پلان میں موجود طریقوں سے واقفیت حاصل کریں۔

اقتباس:

"آگ اتنی تیزی سے پھیلتی ہے کہ آپ کے پاس آگ سے بچ کر نکلنے کے لیے 60 سیکنڈ سے بھی کم ہو سکتے ہیں، لہذا جلدی متنبع ہو جانا زندہ رہنے کے لیے اہم ہے۔ صرف کام کرنے والے دھوئیں کے الارم ہی آپ کو وہ تنبیہ دے سکتے ہیں۔"

- فائر چیف بل بوئیز۔

مزید معلومات کے لیے www.bramptonfire.com ملاحظہ کریں یا برامپٹن فائر کو ٹوئٹر پر BramptonFireES@ پر فالو کریں

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریٹور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں [ٹوئٹر](https://twitter.com/brampton) اور [فیس بک](https://www.brampton.ca) پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نٹالی سٹوگڈیل

میڈیا کوارڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca | 905.874.3654